

75027 - طلاق کے بعد رجوع میں بیوی کی رضامندی شرط نہیں

سوال

جب کوئی شخص عصبیت کی حالت میں بیوی کو طلاق دے دے اور طلاق کے دو ہفتہ بعد بیوی سے رجوع کرنے جائے لیکن بیوی رجوع کو قبول نہ کرے کیونکہ خاوند بیویوں میں عدل نہیں کرتا، اور اس نے بیوی کو ایک برس تک چھوڑے رکھا تو کیا وہ اس پر حرام ہے اور وہ مطلقہ شمار ہو گی یا نہیں؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

جواب:

اول:

شدید غصہ کی حالت میں یعنی غصہ اتنا شدید ہو کہ وہ اپنے اوپر کنٹرول نہ کر سکے اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کا غصہ اس کی عقل پر اثر انداز نہ ہو بلکہ وہ ہوش و حواس میں ہو اور جو کچھ کہہ رہا ہے اس کو جانتا ہو تو پھر یہ طلاق واقع ہو جائیگی.

غصہ کی حالت میں دی گئی طلاق کی تفصیل سوال نمبر (45174) اور (22034) کے جوابات میں بیان ہو چکی ہے آپ اس کا مطالعہ کریں.

دوم:

خاوند کو اپنی بیوی سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہے اور اس میں بیوی کی رضامندی کا ہونا شامل نہیں اور نہ ہی رجوع کے لیے بیوی کی رضامندی شرط ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ عدت کے دوران رجوع کیا جائے، یعنی پہلی یا دوسری طلاق کی عدت کے دوران؛ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور طلاق یافتہ عورتیں تین حیض تک انتظار کریں، اور ان کے لیے حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہے اسے چھپا کر رکھیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور ان کے خاوند انہیں واپس لانے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں، اور ان عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح ان پر (خاوندوں کے) ہیں، اور اللہ تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے البقرة (228).

اس آیت میں خاوند کے لیے لیے رجوع کی شروط کی تنبیہ کی گئی ہے وہ یہ ہیں:

1 - رجوع طلاق میں ہو، اگر نکاح فسخ کیا جائے تو اس میں رجوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور طلاق یافتہ عورتیں "

2 - یہ طلاق رجعی ہو یعنی پہلی یا دوسری طلاق ہو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

طلاق دو بار ہے " یعنی جس طلاق میں رجوع ہو سکتا ہے وہ دو بار ہے، اور اگر تیسری طلاق ہو جائے تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ وہ عورت کہیں اور نکاح رغبت کرے نکاح حلال نہیں، اور وہ دوسرا خاوند دخول کے بعد اسے اپنی مرضی سے طلاق دے دے یا پھر فوت ہو جائے تو یہ عورت اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائیگی.

3 - یہ رجوع عدت میں کیا جائے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

ان عورتوں کے خاوند انہیں اس میں واپس لانے کے زیادہ حقدار ہیں .

یعنی اس عدت میں، اور اگر عدت گزر جائے اور خاوند اپنی بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو وہ رجوع نہیں کر سکتا بلکہ اسے اس کے ساتھ نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ پوری شروط میں کرنا ہوگا.

4 - بیوی سے رجوع کرنے میں خاوند کا مقصد بیوی کو ضرر و تکلیف اور اذیت دینا نہ ہو بلکہ یہ رجوع اصلاح کی نیت سے کیا جائے.

کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اگر وہ اصلاح کا ارادہ کریں البقرة (228).

اگر وہ بیوی کو نقصان اور ضرر دینا چاہتا ہو تو بیوی کو چاہیے کہ وہ شرعی قاضی کے سامنے اسے ثابت کرے تا کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کر سکے.

یہ آیت اس کی واضح دلیل ہے کہ اگر خاوند رجوع کرنا چاہتا ہے تو بیوی کو اس میں کوئی اختیار حاصل نہیں، اور بیوی رجوع کو روک نہیں سکتی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور ان کے خاوند انہیں واپس لانے کے زیادہ حقدار ہیں .

چاہے بیوی اپنے خاوند کے گھر واپس نہیں بھی آتی اور خاوند بیوی سے رجوع کر کے اس پر دو گواہ بنا لیتا ہے تو رجوع ہو جائیگا۔

سوم:

جمہور اہل علم کے ہاں جس عدت میں خاوند رجوع کر سکتا ہے وہ تین حیض ہے، یعنی تیض حیض کے اندر اندر وہ بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، یا پھر اگر عورت حاملہ ہو تو وضع حمل سے قبل رجوع کر سکتا ہے۔

اس بنا پر سوال میں جو بیان ہوا ہے کہ خاوند نے طلاق کے دو ہفتہ بعد ہی رجوع کرنا چاہا یہ عدت میں رجوع کرنے کے موافق ہے، لیکن اگر بیوی حاملہ تھی اور رجوع کرنے سے قبل وضع حمل ہو گیا تو پھر نہیں۔

چہارم:

خاوند کا اپنی بیوی سے دور رہنا اور اسے چھوڑے رکھنے سے ہی طلاق واقع نہیں ہو جاتی، سوال نمبر (11681) کے جواب میں بیوی سے خاوند کا لمبے عرصہ تک غائب رہنا طلاق شمار نہیں ہوتا بلکہ قاضی یا خاوند کے طلاق دینے پر ہی طلاق ہو گی تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے اس کا مطالعہ کریں۔

پنجم:

ایک سے زائد بیویاں رکھنے والے شخص پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارہ میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، اور اللہ کی جانب سے واجب کردہ عدل و انصاف کرے، بیویوں کے مابین عدل و انصاف کے بارہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ سوال نمبر (10091) اور (13740) کے جوابات کا مطالعہ کریں۔

ششم:

مرد کا بغیر کسی شرعی سبب کے اپنی بیوی سے بائیکاٹ کرنا اور اسے چھوڑنا حرام ہے، اگر یہ بائیکاٹ بیوی کی اصلاح کے لیے ہو تا کہ وہ ترک کردہ واجب پر عمل کرے، یا پھر کردہ گناہ سے باز آ جائے تو اس سے بائیکاٹ کرنا جائز ہے۔

بلاشک و شبہ آدمی کا اپنی بیوی کو اس عرصہ (ایک برس) تک چھوڑے رکھنا مشکل کو زیادہ کرنے کی دلیل ہے، اور وہ اس مشکل کو حل نہیں کر سکتے، اس حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عورت کے خاندان سے اور ایک مرد کے خاندان سے منصف بھیجنے کا حکم دیا ہے، تا کہ وہ ان دونوں کے معاملہ کو دیکھ کر جس میں مصلحت دیکھیں اس کے مطابق فیصلہ کریں اور خاوند اور بیوی سے ضرر و نقصان کو ختم کریں۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

اور اگر تم ان دونوں کے مابین جھگڑا ہونے کا خدشہ رکھو تو ایک شخص مرد کے خاندان سے اور ایک شخص عورت کے خاندان سے بطور منصف بھیجو اگر وہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میں موافقت پیدا کر دیگا، یقیناً اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے النساء (35) .

خاوند کو علم ہونا چاہیے کہ اسے دو میں ایک کا حکم ہے:

یا تو وہ اپنی بیوی کو اچھے طریقہ سے اپنی عفت و عصمت میں رکھے، اور اس سے بہتر طریقہ سے معاشرت کرے، یا پھر وہ اسے اچھے طریقہ اور احسان کے ساتھ طلاق دے کر اس کے پورے حقوق دے کر اسے فارغ کرے، اور اس پر ظلم مت کرے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

یا تو اچھے طریقہ سے روک لینا ہے، یا پھر اچھے طریقہ سے چھوڑ دینا ہے البقرة (229) .

مزید تفصیل دیکھنے کے لیے آپ سوال نمبر (45600) اور (11971) کے جوابات کا مطالعہ کریں.

واللہ اعلم